



کمیونٹی اہلیت کا قاعدہ (CEP) اکثر پوچھے جانے والے سوالات



کمیونٹی اہلیت کا قاعدہ (CEP) کیا ہے؟

کمیونٹی اہلیت کا قاعدہ وفاق کی جانب سے خوراک فراہم کرنے کا قانون ہے جو 2010ء میں کانگریس سے منظور شدہ صحت مند اور بھوک سے پاک بچوں کے ایکٹ (HHFKA) کے تحت نیشنل سکول لنچ پروگرام (NSLP) اور سکول بریک فاسٹ پروگرام (SBP) کو جلا بخشتا ہے۔ CEP اہل سکولوں کو انفرادی آمدنی کے لحاظ سے حاضر طلبا کو مفت خوراک فراہم کرتا ہے۔ CEP سکولوں کے لئے غذا حاصل کرنے کی اہلیت کا تعین کرنے کی غرض گھریلو افراد کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواستوں کا بوجھ کم کرتا ہے اور اس کے برعکس سپلیمنٹ نیوٹریشن اسسٹنس پروگرام (SNAP) ، کال فریش اور ضرورت مند خاندانوں کے لئے عارضی معاونت (TANF) ، کال ورکس وغیرہ جیسے دیگر توثیق شدہ پروگراموں کو دی گئی معلومات پر انحصار کرتا ہے۔

سکول CEP میں کیسے حصہ لیتے ہیں؟

CEP میل سٹیٹس کے سکولوں کی اہلیت طلبا کی تعداد پر منحصر ہے جو کال فریش، کال ورکس، فوڈ ڈسٹری بیوشن پروگرام برائے انڈین ریزرویشنز (FDPIR) یا ہیڈ سٹارٹ پروگرامز یا جو بے گھر ، لے پالک، مہاجر، کل سائٹ انرولمنٹ کے فی صد بھاگے ہوئے ثابت شدہ ہوں۔ شامل ہونے والے سکولوں کے گروپ یا انفرادی سکولوں 'طلبا کی فی شناخت' (ISP) چالیس فی صد یا مساوی ہے۔ 62.5 فی صد یا مساوی ISP کے حامل سکول حصہ لینے کے اہل ہیں۔

طلبا کون سا کھانا حاصل کریں گے؟

ہر طالب علم بغیر قیمت کے ایک ناشتہ اور ایک لنچ حاصل کر سکتا ہے۔ USDA کی نیوٹریشن ہدایات کے مطابق کھانے کا مینو تیار کیا جائے گا جس میں تازہ پھل اور سبزیاں شامل ہوں گی۔ میل سروس کے دوران، پیش کش بمقابلہ خدمت مسلسل جاری رہے گی۔ طلبا کو تمام اجزا کی پیش کش کی جائے گی اور انہیں کم از کم تین اجزا کا انتخاب کرنا ہوگا جس میں پھل یا سبزی کا جزو لازمی شامل ہو۔

ہر کھانے کو کیسے ٹریک کیا جائے گا؟

نیوٹریشن سروسز پر پیش کئے گئے کھانے کو ٹریک کرنے کے لئے پوائنٹ آف سروس کا استعمال جاری رکھے گی۔ کھانے انفرادی طلبا کے کھاتے (بغیر کسی کھانے کے اخراجات) کے ذریعے ٹریک کئے جائیں گے۔ طلبا قطار میں کلاس روم جائیں گے اور اپنا کارڈ یا PIN استعمال کریں گے۔

کیا بالغان/اساتذہ سکول میل پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں؟

اہل مقامات پر مفت سکول میل صرف طلبا کے لئے ہیں۔ کھانے کے خواہش مند بالغان ، منتخب قیمت پر کھانا خرید سکتے ہیں۔

بریک فاسٹ: 2.25 ڈالر؛ لنچ: 4.00 ڈالر؛ دوپہ: 0.35 ڈالر



کمیونٹی اہلیت سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ کیا ہر کوئی؟

طلبا روزانہ صحت بخش مفت خوراک تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ، لنچ لائنز میں کم وقت صرف ہوتا ہے اور طلبا صحت بخش خوراک کھانے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ والدین گھریلو درخواستیں جمع کرانے کے لئے فکر مند نہیں ہوں گے جس کا مطلب ہے کم کاغذی کارروائی اور لنچ اکاؤنٹس اور غیر ادا شدہ غذا کی کوئی تکلیف نہیں۔ کیفٹریا سٹاف خوراک کھانے کے لئے طلبا کو میل سروس فراہم کرنے میں زیادہ وقت کا بندوبست کریں گے۔

اہل سکولوں کے لئے کس قسم کی کاغذی کارروائی کی ضرورت ہے؟

اگرچہ CEP میل درخواست فارم جمع کرانے کی ضرورت نہیں تاہم لوکل کنٹرول فنڈنگ فارمولہ (LCFF)، ٹائٹل I اور At-risk پروگراموں کے ذریعے اسٹیٹ فنڈ کے تعین کے لئے سکول پروگرام سروسز فارم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا، سکولوں کو ہر براہ راست غیر توثیق شدہ اور نئے داخل طالب علم کے لئے سکول پروگرام سروس فارم سے گھریلو معلومات کی ضرورت ہوت ہے۔

سکول پروگرام سروسز فارم کیسے تقسیم اور جمع کرانے جائیں گے؟

تمام نئے داخل طلبا کو سکول پروگرام سروسز فارم فراہم کئے جاتے ہیں۔ یہ نیا فارم ہے اور ہمارے اندراج کے عمل کا لازمی حصہ ہے۔ سکول پروگرامز ٹون ریورز یونی فائیڈ سکول ڈسٹرکٹ کے لئے سروسز فارم بالکل نئے طلبا کے لئے ضروری ہے۔ ان فارموں کے ذریعے ضلع سکولوں میں طلبا کے لئے متعدد تربیتی پروگراموں کی مسلسل فنڈنگ کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس طلبا کی تعداد کے مطابق فارم نہ ہوں تو ہم فنڈنگ سے محروم ہو جائیں گے اور نتیجتاً سکول کی سطح پر تربیتی پروگرام بھی حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تمام فارم 30 اکتوبر سے پہلے جمع کرا دیئے جائیں۔